

روزے میں ٹیسٹ وغیرہ کے لیے خون نکالنا کیسا؟

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ

الاستفتاء: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ٹیسٹ وغیرہ کے لیے بلد کے نکالنے سے روزے پر کیا فرق پڑے گا؟ اور کیا کسی مریض کو خون دینے کے لیے جسم سے خون نکالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا؟ دلائل سے مسئلہ کی توضیح مطلوب ہے۔

سائل: عبدالله (انگلینڈ)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي النُّورَ وَالصَّوَابَ

ٹیسٹ وغیرہ کے لیے جسم سے خون نکلوانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ نبی کریم ﷺ نے خود روزے کی حالت میں خون نکلوایا یعنی حجامہ کروایا۔ جیسا کہ بخاری شریف میں عبدالله بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ "وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ" نبی کریم ﷺ نے روزے کی حالت میں حجامہ کروایا۔

(الصحيح البخاری باب الحجامه و القئی للصائم رقم 1938)

عرب میں علاج کے لیے حجامہ کروایا جاتا تھا اور میں جسم کے مختلف حصوں سے خون نکالا جاتا ہے نبی کریم ﷺ نے روزے کی حالت میں جسم سے خون نکلوایا جس سے ثابت ہوا کہ جسم سے خون نکلوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور اس طرح کی کئی احادیث صحاح میں موجود ہیں جن کی سند بالکل صحیح ہے۔ اور ایسے ہی روزے کی حالت میں مریض وغیرہ کو خون دینے کے لیے خون نکلوانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا البتہ اگر ایسا کرنے سے کمزوری کا اندیشہ ہے تو مکروہ ہے۔

جیسا کہ فتاویٰ ہندیہ میں ہے: "وَلَا بَأْسَ بِالْحِجَامَةِ إِنْ أَمِنَ عَلَى نَفْسِهِ الضَّعْفَ أَمَا إِذَا خَافَ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ" حجامہ میں کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ اپنے اندر کمزوری سے امن پاتا ہو اگر اسے کمزوری کا خوف ہو تو روزے کی حالت میں حجامہ مکروہ ہے۔

(الفتاویٰ ہندیہ باب الثالث ج 1 ص 200)

اور بہار شریعت میں ہے: فصد کھلوانا، پچھنے لگوانا مکروہ نہیں جب کہ ضعف کا اندیشہ نہ ہو اور اندیشہ ہو تو مکروہ ہے، اسے چاہیے کہ غروب تک مؤخر کرے۔

(بہار شریعت ج 1 ص 997 تا 998 مطبوعہ مکتبۃ المدینہ)

وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء

قادری

Date: 27-5-2018

BLOOD TEST WHILST FASTING

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله

QUESTION:

What do the scholars of the Din and muftis of the Sacred Law state regarding the following issue, that what effect will having a blood test have on a fast? Will the fast become invalid for a patient by them having blood taken out? Please shed light on this issue with proofs.

Questioner: Abdullah from England

ANSWER:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الجواب بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

A fast will not break by having blood taken out for a test, etc because the Holy Prophet ﷺ himself had his blessed blood taken out, meaning he ﷺ had cupping done.

Just as it is narrated in Bukhārī Sharīf by Sayyidunā ‘Abdullah Bin ‘Abbās,

"وَإِخْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ"

The Holy Prophet ﷺ had cupping done whilst in the state of fasting

[al-Sahīh al-Bukhārī, Bāb al-Hijāmah wa al-Qay li al-Sāim, no. 1938]

In Arabia, cupping used to be performed as a cure and blood would be taken out from different places of the body. The Holy Prophet ﷺ had his blessed blood taken out, which proves that a fast does not break by having blood taken out, and there are many sahīh Hadīths present like this whose chains are totally sahīh.

Likewise, the fast will not break for a patient, etc if they have blood taken out. However, if there is fear of becoming weak, then it is makrooh [disliked].

Just as it is mentioned in Fatāwā Hindiyyah,

"وَلَا بَأْسَ بِالْحِجَامَةِ إِنْ أَمِنَ عَلَى نَفْسِهِ الضَّعْفَ أَمَا إِذَا خَافَ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ"

There is no problem with cupping if one has no feeling of weakness, however if one fears that one will become weak, then cupping whilst in the state of fasting is makrooh.

[Fatāwā Hindiyyah, Ch. 3, Vol. 1, Pg. 200]

It is also stated in Bahār-e-Sharī'at that, 'To have phlebotomy [venipuncture i.e. via a needle in the vein] or cupping done is not makrooh, if there is no risk of feeling weakness; and if there is a risk of feeling weakness, then it is makrooh. One should rather delay it until after sunset.'

[Bahar-e-Sharī'at, Vol. 1, Pg. 997-998, print by Maktaba tul Madīnah]

والله تعالى اعلم ورسوله اعلم صلى الله عليه وآله وسلم
كتبه ابو الحسن محمد قاسم ضياء قادري

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri

Translated by Haider Ali